

## روزوال کی فضیلت

بِاَيْهَا النَّنَاءُ اَمْنُوا كَتَبْ عَلَيْكُم الصِّيَامَ كَمَا كَتَبْ عَلَى النَّنَاءِ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعِلْكُمْ تَقُولُونَ۔ ”  
البرقة: ۱۸۳“

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

ان آیات میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن روزہ کا بیان ہے۔ صیام (روزہ) کے لفظی معنے رک جانے کے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے اسکا کا لفظ بھی آتا ہے۔ تاہم صوم کا لفظ بھی رک جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی کا شعر ہے۔

خیل صیام و خیل غیر صائم  
تحت العجاج و اخرى تعلک اللجماء

شریعت میں طوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔

روزہ نہار شرعی کے اندر ہوتا ہے۔ اور شرعی دن سے مراد پوچھوٹنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ اس دوران کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا اس نیت کے ساتھ کہ میرا روزہ ہے، یہی صوم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے تیسرا کن ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے علیکم بالصوم فانہ لا عدل لہ، روزہ کو لازم پکڑو کیونکہ روزہ جیسی کوئی اور عبادت نہیں۔

فرمایا اے ایمان والو! یہ روزے صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض تھے۔ البتہ ان روزوں کی مقدار اور تعداد مختلف امتوں کے لیے مختلف رہی ہے۔ چنانچہ مشور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض یعنی ہر ماہ کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ روزے امت محمدیہ کے لیے منتخب کا درجہ رکھتے ہیں حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ بڑے سخت مزاج اور اکھڑتے تھے، ان میں بھیت کا غصر زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا۔ اسے کم کرنے کے لیے اس امت کو سارا سال روزے رکھنے کا حکم تھا حضرت واو علیہ السلام دو دن روزہ رکھتے تھے اور تیرے دن افطار کرتے تھے اس امت آخر الزمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال

بھر میں ایک ماہ کے روزے فرض کیے۔ ان کے متعلق فرمایا ایسا مامعذوت یعنی تین سو ساتھ دن میں سے انتیں یا تیس دن کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔

امام طحاویؒ اپنی کتاب مشکل الہامیں فرماتے ہیں کہ ہر عبارت میں ریا کا امکان ہے۔ صرف روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کاری کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نیز باطنی عبادت ہے۔ اور اس کا متعلق ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور دوسری طرف بندہ کے ساتھ۔ نماز، زکۃ حج وغیرہ ایسی عبادات ہیں جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، انہیں محسوس کر سکتے ہیں، اور زکۃ سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر روزہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آ سکتا۔ اس کا متعلق صرف روزہ دار کی ذات سے ہوتا ہے۔ دوسرا شخص نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ محسوس کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عام لوگوں کے سامنے تو نہیں کھاتا پیتا مگر درپرداز ایسا کہلاتا ہے۔ تو اس کا روزہ کہاں ہو گا۔ وہ لائھ اعلان کرتا پھرے کہ میں روزہ دار ہوں مگر اس کی حقیقت کو وہ خود جانتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ روزے دار ہے یا نہیں۔ اس کا متعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدله تو ہر عبادت کا دیا جائے گا۔ مگر روزہ ایک ایک عبادت ہے۔ جس کی جزا میں خاص طور پر خود عطا کروں گا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ **الصوم لی وانا اجزی۔**

روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدله دوں گا

روزہ کے روحانی فوائد کے ساتھ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ ارشاد ہے

**صوموا تصحوا۔** روزہ رکھو مگر تمہیں صحت نصیب ہو۔ یورپ کے بہت سے نامور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسلام نے فاقہ کا جو طریقہ روزہ کی صورت میں مقرر کیا ہے، اس سے بستر حفظان صحت کا کوئی اصول نہیں مختلف بیماریوں کے حملہ کی صورت میں بھی روزہ صحت مندی کا سبب بنتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بلجنی مادہ کی زیادتی کا میریض ہو، تو روزہ رکھنے سے بالکل تندرست ہو جائے گا۔ فاقہ کرنے سے بلجنی اور کئی دوسری و طوبیں خشک ہو جاتی ہیں اور آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ روزہ رکھو، صحت نصیب ہوگی۔

روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ قانون کی پابندی سکھاتا ہے روزہ کے ذریعے انسان ایک مقررہ وقت کے لیے حلال اکل و شرب سے بھی رک جاتا ہے۔ مقدمہ اس کا یہ ہے کہ انسان قانون کا پابند ہو جائے۔ جب وہ قانون کی پابندی کے ذریعے حلال چیزوں سے رک سکتا ہے۔ تو وہ حرام چیزوں سے بھی رک جائے گا۔ کھانے پینے اور نفسانی خواہش کی تجمیل سے انسان کافش مزید پھلتا چھوتا ہے۔ اسے کمزور کرنے کے لیے اسلام نے روزہ کا قانون تاذکہ کیا۔ مگر نفس انسانی کو فاقہ کے ذریعے کمزور کیا جاسکے۔ لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے کہ انسان میں تقویٰ جیسی اچھی خصلت یہاں ہو جائے۔

حضرت مولانا شیخ الندی فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے جب نفس کو مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑ جائے گی۔ تو پھر اسے شرعاً حرام چیزوں سے روکنا آسان ہو جائے گا۔ جب روزہ کی وجہ سے قوت نفس اور شهوت میں ضعف آئے گا۔ تو تم مقنی بن جاؤ گے۔ روزہ میں یہ بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ کہ اس سے سرکش نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور شریعت کے احکام پر پابندی ہونے لگتی ہے۔

مقنی بننے کا یہی معنی ہے کہ انسانی نفس اس کے تابع ہو جائے اور احکام شریعت پر عمل آسان ہو جائے۔

## مذہب اور فلسفہ

مشہور فلسفی بیکن (BACON) المتنی ۱۶۲۶ء کی نظر میں

ہرگز کبھی فلسفہ اور مذہب میں خلط بحث نہیں کرنا چاہیے اس سے فلسفہ و ہم بافتہ ہو جاتا ہے اور مذہب ملعوانہ، ان دونوں کے ماغذہ جدا جدائیں، فلسفہ ادارہ حسی سے شروع ہوتا ہے اور مذہب کی بنا و حی و الامام ہے۔ "سامنس اور نفس انسانی حواس کے زیر اثر ہوتا ہے اور ایمان میں ایک دوسری ذات برتر (خدا) کے زیر اثر، اسی لیے ایمان سامنس سے اشرف ہے اور کوئی سرالٹی جتنا برتر از گمان و یقین ہو اتنا ہی اس کا ماننا خدا کے سامنے اظہار نیاز ہے اور اتنا ہی زیادہ شاندار ایمان کا غلبہ جب ہم ایک مرتبہ دین کے اصولوں کو تسلیم کر لیں تو ان سے ہم اسی طرح منطقی متاجع اخذ کرتے ہیں جس طرح ہم فلسفہ میں اصول اولیہ سے اخذ کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں بڑا اہم فرق یہ ہے کہ فلسفہ میں دیگر قضایا کی طرح اصولوں کا بھی استقراء سے گمراحتیقیدی امتحان لیا جاتا ہے لیکن مذہب میں ان کی الٹی سند ہونے کی وجہ سے اصول اولیہ کو ہاتھ نہیں لگاسکتے جس طرح شطرنج کے اساسی قوانین معرض بحث میں نہیں آسکتے۔

(بحوالہ تاریخ فلسفہ جدید ج ۱ ص ۲۳۳)